

برکاتِ نعمت علیہ

پراسرارِ الٰہ

ایمان فروز بخ و ایمان

مکتبہ مسیحیت
02144791 - 02144622888
www.mishti.com.pk

جعفر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلُوٰةِ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

أَمَّا بَعْدُ فَاغْوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ طِسْمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

ذرود شریف کی فضیلت

سرکار مدینہ کا فرمان تقریب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تروہ ہو گا جس نے مجھ پر زیادہ ذرود شریف پڑھے ہوئے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث ۲۲۸۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفقیر یروت)

صلوٰ اعلیٰ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیٰ محمد

۱) پراسرار گناہ

سرحد کے مشہور (کوٹ) کے مبلغ دعوتِ اسلامی ^{خشن} عطاری نے حلفیہ بتایا جس گھر میں پہلے غیر مسلم رہتے تھے اس میں اب اسلامی بھائی رضوان علی عطاری رہائش پذیر ہیں وہاں ایک عجیب پراسرار واقع پیش آتا۔ آدمی رات ڈھلے یا کبھی دن میں گھر کے اندر ایک بھی انک کالا کتا داخل ہو جاتا، تمام دروازے کھڑکیاں احتیاط کیما تھے بند کرنے کے باوجود بھی جب اس کی آمد کا سلسلہ نہ رکا، تو ایک دن ان کے پچھانے غصہ میں بھپر کتے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس لاش انھا کر باہر کوڑے دان میں ڈال دی اور گھر کی طرف راونہ ہو گئے۔ چند قدم ہی چلتے تھے۔۔۔ کہ پلٹ کر دیکھا تو حیرت انگیز طور پر کتے کی لاش غائب ہو چکی تھی!۔۔۔ اس دن کے بعد سے گھر میں عجیب پراسرار معاملات ہونے لگے، کبھی ایک خوفناک عورت بال کھولے رو تے نظر آتی تو کبھی چھوٹے چھوٹے قدم کے عجیب الخلق بچے دوڑتے پھرتے دکھائی دیتے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پراسرار کوئی جن تھا اور اس کو قتل کر دلانے کے سبب بطور انتقام مقتول کے بال بچے گھر میں خوف و هراس پھیلارے تھے۔ ان کے پچھا سخت خوفزدہ رہنے لگے اور سوکھ کر کاٹا ہو گئے۔ ان کے یہاں اولاد اگرچہ بالکل صحیح پیدا ہوتی، مگر کچھ ہی عرصے میں نظر کمزور ہوتے ہوتے اسقدر کم ہو جاتی کہ رات میں تو ان بچوں کو بالکل دکھائی دیتا۔ سخت اذیت میں بیٹلا تھے۔ کافی عالمین کو دکھایا۔۔۔ مگر حل نہ نکل سکا۔۔۔ ^{خشن} عطاری کا کہنا ہے میں نے انھیں امیر الہست دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونے کا مشورہ پیش کیا جتنا چچے انھوں نے امیر الہست دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہونے کی سعادت حاصل کر لی اور ان کے عطا کردہ تعویزات و اوراد بھی استعمال کئے، الحمد للہ عزوجل جان ایک ولی کامل کے دامن سے والبیگی اور تعویزات عطاری کی برگث سے ان کا خوف جاتا رہا اور خوفناک عورت اور عجیب الخلق بچوں کا دکھائی دینا بھی بند ہو گیا۔ اور اولاد بھی صحیح سلامت ہونے لگی، انکا گھر ایک گھر یا پھر امن کا گھوارہ بن گیا۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یہ رب عزوجل کا کرم ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایسے قلب و روح کے معانی اور خلق کا رشتہ خالق کا سے مربوط و مضمون کرانے والے عارفین و اصلاحیین ضرور پیدا فرماتا ہے جن کی حیات مبارکہ کا الحمد للہ اپنے اندر بے پناہ کش رکھتا ہے۔ ان کی حکمرانی بجزء و بر پنظر آتی ہے۔

بظاہر دُنیوی بے سروسامانی کے باڑ جود اللہ عز وجل کی عطا سے وہ جب چاہیں اپنی نگاہ ولایت کے اشارے سے محسوس میں تاج شاہی سے سرفراز فرماسکتے ہیں۔ بڑے بڑے سکر و فرواں مغروران دنیا بھی جب ان کے آستانہ عالیہ پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں تو ہبہت ولایت کی تاثیر سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، کہ واقعی اصل حکومت انھیں چٹائی نشینوں کی ہے۔ ان بندگان مقبول ان خدا عز وجل کونور آخترت کا وہ حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری تک و در خدا عز وجل کے سفر کیلئے وقف کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد حیات یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سلف صالحین کی طرح شیخ طریقت امیر الہست ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد ایاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے قلب مبارک میں بھی امت کی خیر خواہی کا جذبہ بیکاراں موجز ہے۔

دعوتِ اسلامی کامڈنی ماحول

اسی مقدس جذبے کے تحت آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ساری دنیا میں بد عقیدگی اور بے عملی کے اٹھتے ہوئے طوفان کی ہلاکت خیزیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی راہ میں بند پابند ہنسے اور فرنگی تہذیب کے دلدادہ مسلمانوں کیا اصلاح تربیت کیلئے قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوتِ اسلامی کی صورت میں قرآن و سنت کی دعوت عام کرنے کا عزم فرمایا امیر الہست دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی حکمت و فراست سے نہ صرف قرآن و سنت کی تبلیغ کے حوالے سے اصلاح امت کیلئے مدنی کاموں کی ترکیبیں فرمائیں، بلکہ تقریباً زندگی کے ہر شعبہ جات میں بہتری کیلئے مختلف مدنی انداز سے آپ امیر الہست دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی کوشش جاری ہیں۔۔۔ تعویزاتِ عطاریہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ضمن میں (اکیس) ایمان افروزو اوقاعات اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

(۲) آواز کھل گئی

گلزار طیبہ (سرگودھا) کے حاجی وقار المدینہ عطاری بھائی کا حلیفہ بیان ہے کہ قاری غلام حسین عطاری کے ایک عزیز کیا آواز بند ہو گئی۔ ہر قسم کے علاج کے باڑ جود کوئی افاق نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا..... جس پر کم و بیش ۲۵ ہزار کا خرچ تھا..... انہوں نے اپنے عزیز کے علاج کے اخراجات کیلئے جب ۱۰,۰۰۰ کا مطالبہ کیا تو ان کا ذہن بنایا گیا کہ پہلے مجلس مکتبات و تعویزات عطاریہ سے تعویزات عطاریہ لے کر استعمال کروائیں۔ ان شاء اللہ عز وجل آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تعویزات عطاریہ کا استعمال کیا۔ ان کا بیان ہے کہ ابتداء میں کچھ کچھ آواز لکھنا شروع ہوئی اور وہ دو مرتبہ پلیٹوں والے عمل کا کورس مکمل ہونے پر الحمد للہ عز وجل میرے عزیز بالکل نارمل انداز میں بات چیت کرنے لگے! تعویزات عطاریہ کے استعمال کی برکت سے، الحمد للہ عز وجل آپریشن سے نجات، اور مرض سے سے شفاء مل گئی۔ جب ڈاکٹروں کو معلوم ہوا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے آخر ایسی کون سی دواستعمال کی گئی کہ بغیر آپریشن یہ بولنے لگے..... ورنہ اسکا واحد علاج آپریشن تھا۔

(۳) ڈاکور قم واپس کر گئے

جز احوالہ (طلع سردار آباد) کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے توکر کیدر یعنی سترہ لاکھ (۱۰۰۰۰۰) روپے بینک سے منگوائے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ رقم سمیت غالب ہو گیا۔ بہت کوشش کی مگر معلوم نہ ہوا سکا آخر تھک ہار کر..... باب المدینہ (کراچی) کی مجلس مکتبات و تعویزات عطاریہ سے رابطہ کیا..... انہوں نے شیخ طریقت امیر اہلسنت دامتہ رَبِّکَ اَنْهُمُ الْعَالِیُّه کے تعویزات دیئے۔ ان کا کہنا ہے الحمد للہ عز وجل جل صرف دو دن بعد ہی اس توکر کا فون آیا کہ تمہاری رقم فلاں مقام پر موجود ہے..... آکر لے جاؤ۔ میں اس مقام پر پہنچا تو واقعی وہاں میری پوری رقم جوں کی توں موجود تھی..... میں حیرت زدہ ہوں۔ اور اب تک سمجھنہ بیس آرہا اس نے رقم کس طرح واپس کر دی الحمد للہ عز وجل یہ امیر اہلسنت دامتہ رَبِّکَ اَنْهُمُ الْعَالِیُّه کے تعویزات کی ہی برکت ہے۔..... پھر اس شخص نے پانچ لاکھ روپے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خرچ کیلئے دینے کا اظہار کیا۔

نہ مجھ کو آزمادنیا کا مال و زر عطا کر کے
عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول ﷺ

(۴) جنات سے چھٹکارا

ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میری چھوٹی بہن پر جنات کے اثرات تھے۔ ایک بار اسکی عجیب حالت ہو گئی، گردن مڑ گئی، آنکھیں سرخ انگاروں کے مانند ہو گئیں، بار بار اوپر کی جانب دیکھتی، کبھی ہنستی تو کبھی کہتی کہ میں مر جاؤں گی، اسکی عجیب حالت تھی، اسی پریشانی کے عالموں کو دکھایا مگر وقتی فائدہ ہوتا اور دوبارہ طبیعت خراب ہو جاتی اسی پریشانی کے عالم میں میں مجلس مکتبات و تعویزات عطاریہ سے رابطہ کر کے تعویز عطاریہ حاصل کیا اور جیسے ہی بہن کو پہنایا تو بہن پر کپکپا ہٹ طاری ہو گئی، اور اس حالت میں زمین کی جانب جھکتی چلی گئی، پھر یکدم نارمل ہو گئی۔ ایسا لگ جیسے جن چلا گیا، الحمد للہ تھی تادم تحریر میری بہن اب تک بالکل ٹھیک ہے۔

تحریر تھرتے ہیں سبھی جات تیرے نام سے
ہے تیرا وہ دبدبہ یا غوث اعظم دیگیر (ارمغان مدینہ)

(۵) بواسیر کے مرض سے شفاء

اسلام آباد (پنجاب) کے ایک سیدزادے نوجوان کا حلوفیہ تحریری بیان ہے کہ مجھے عرصہ دراز سے بواسیر کا مرض لاحق تھا..... جس وجہ سے میں انتہائی آزمائش میں بیٹلا تھا..... کافی علاج کیلئے کوشش کی۔ افاقہ نہ ہوا..... ایک دن فیضان مدینہ (راولپنڈی) میں تعویزات کے مكتب پر پہنچا اور بیماری سے متعلق بتایا انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور تعویزات عطاریہ دیئے اور کاث کا عمل کر کے پینے کیلئے پانی بھی دیا۔ الحمد للہ عز وجل کچھ ہی عرصے میں مجھے اس مرض سے نجات مل گئی۔ اب میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا ہوں۔

(۶) مسوزہ کا کینسر

حیدر آباد (سنده) کے حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری کا حلیفہ بیان ہے ہے کہ محمود علی عطاری کے والد نور خان جن کی نیوکلاٹھ مارکیٹ میں دکان ہے ان کی داڑھ میں تکلیف ہوئی ڈاکٹر زنے کینسر کا شک ظاہر کیا۔ اُنکے بیٹے کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی بچھ گئی یہ نے جب علاج کیلئے والد صاحب سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا میں اپنے لئے اب کو داوی نہیں لوں گا بلکہ اپنے پیر و مرشد امیر احمدت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویزات کے ذریعے علاج کی کوشش کروں گا فیضان مدینہ سے مجلس مکتوبات و تعویزات عطاریہ کے مکتب سے رابطہ کیا انہوں نے پیش کر دیں الحمد للہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں پلیٹوں کے استعمال سے زخم سوکھنا شروع ہو گیا اور چند ہفتوں کے اندر اندر وہ زخم، جس کیلئے ڈاکٹر زنے کینسر کا شک ظاہر کیا تھا بالکل بھر گیا۔

نہ بھریں زخم دل ہرے ہو کر
رہے گلشن ہرا بھرا یا رب عز و جل (ذوق نعمت)

(۷) خون کے پراسرار چھینٹے

جز اనوالہ (سردار آباد) کے زاہد بھائی کے گھر پر کسی نے بڑا خخت کا علم کرا رکھا تھا، روزانہ پورے صحن میں جیسے خون کی بارش ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کافی عالمیں سے تعویزات لیئے مگر مسئلے کا حل نہ ہوا کہ کھانا کھاتے وقت اچانک اوپر کی طرف سے یکبارگی کثرت سے خون بارش کی طرح برستا۔ پورا صحن اور ہمارے کپڑے تک خون میں تر بتھ جاتے، گھر والوں پر ہر وقت خوف طاری رہتا، میرے ابو جو کہ امام مسجد ہیں انہوں نے سردار آباد میں مجلس مکتوبات و تعویزات عطاریہ سے رابطہ کیا اور تعویزات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کیئے۔ الحمد للہ عز و جل اس خطرناک کا علم کا توڑ ہو گیا اور ہمارے گھروالے جو کہ خون کی بارش کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے تھے امیر احمدت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویزات کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور اس خون کی خوفناک پراسرار بارش سے بھی نجات مل گئی۔

ابد برسا دے نور کا کہ لوں

بارشِ نور سے نہاء یا رب عز و جل (مناجات عطاریہ)

(۸) سانس کی تکلیف سے نجات

ایک اسلامی بہن نے لکھ کر دیا میری ۲۵ سالہ بیٹی کو پیدائشی سانس کی تکلیف تھی اچانک سانس رک جاتا، گھروالے گھبرا کر رونے لگتے، کئی ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا۔ مگر افاق نہ ہوا، میرا بیٹا دعوت اسلامی کے درستہ المدینہ میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنی بہن کیلئے تعویزات عطاریہ لے کر آیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعویزات عطاریہ استعمال کرائے۔ الحمد للہ عز و جل! میری بیٹی کا ۲۵ سال پر اتنا مرض ختم ہو گیا، صرف معمولی سی تکلیف باقی ہے۔ ان ہاء اللہ عز و جل وہ بھی تعویزات عطاریہ کی برکت سے ہو جائے گی۔

ہو ہر نشہ مدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ
جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا (ارمغان مدینہ)

(۹) چہرے سے دانے صاف

۲۰ سالہ نوجوان نے حلفیہ لکھ کر دیا کہ میرے چہرے پر کافی عرصہ سے دانے نکل آئے تھے، جس سے چہرہ بدگمان ہو گیا تھا۔ میں باہر نکلنے اور کسی سے ملنے سے شرما تا، بہت علاج کروایا، مہنگا مرہم استعمال کیا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ میرا بھانجنا یک دن میرے لئے تعویزات عطاریہ لے آیا، جو میں نے استعمال کیئے اور ایک وظیفہ پڑھنے کا تھا وہ پڑھنے کے دانے حیرت انگیز طور پر ختم ہو گئے۔
الحمد للہ عز وجل میرے چہرے کے دانے حیرت انگیز طور پر ختم ہو گئے۔

میرے چہرے کی سیاہی سے اندر ہری رات شرمائے
میرا چہرہ ہو تاباں نورِ عزت یا رسول ﷺ
(۱۰) گلے میں سکھ پہنس گیا

اندرون سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بتایا، میرا چھوٹا بیٹا محمد بال عطاری جس کی عمر تقریباً آٹھ سال ہے۔ ایک دن کھلتے کھلتے ایک روپے والا سکہ نکل گیا، سکہ حلق سے نیچے اتر کر، کھانے کی نالی میں جا پھنسا، میں نے پریشانی کے عالم میں ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے چیک کر کے جواب دیا، کہ یہ سکہ آپریشن کے بغیر نہیں نکل سکتا، میں بچہ کو لیکر فوراً حیدر آباد گیا وہاں کے مشہور سرجن نے بھی یہی کہا، مجھ پر ما یوسی کے سامنے منڈلانے لگے، اتنے میں تعویزات عطاریہ کی طرف توجہ گئی اور میں نے فیضانِ مدینہ پہنچ کر مجلسِ مکتوبات و تعویزات عطاریہ کے اسلامی بھائی سے عرض کی، انہوں نے مجھے کافی تسلی دی اور امیر الہست دامتہ برکاتِ ہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی دیا، میں نے پچھے کورات پانی پلاپایا، صحیح جب ایکسرے کروایا تو الحمد للہ عز وجل بچے کے گلے سے سکہ نیچے اتر چکا تھا اور میرا بچہ آپریشن کی تکلیف سے فک گیا۔

یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا
بھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا (ذوق نعمت)
(۱۱) ذہنی مریض کو شفاء

ایک مبلغ نے بتایا، میرے چھوٹے بھائی جن کی عمر تقریباً ۲۵ سال ہو گی، بہت ہی سنجیدہ اور کم گو ہیں، اپنے کم گو ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کچھ روز پہلے اچانک ان کی کیفیت بالکل ہی بدل گئی، عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، باتیں اتنی کرنے لگے کہ چپ کروانا مشکل ہو گیا، میں ایسا اندازہ ہوا کہ جیسے ان پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، گھر والے بہت پریشان تھے، لہذا میں فیضانِ مدینہ سے تعویزات عطاریہ لایا اور بھائی کو پہنچائے الحمد للہ عز وجل چند دنوں میں وہ حیرت انگیز طور پر بالکل ٹھیک ہو گئے، کام بھی معمول کے مطابق کرنے لگے اور وہی سنجیدہ پن دوبارہ لوٹ آیا۔

ذکر و ذرود ہر گھری ورد زبان رہے
میری فضول گوئی کی عادت نکال دو (مغلان مدینہ)

(۱۲) پتے میں پتھرو

ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ لکھ کر دیا کہ میری اہلیہ کے پتے میں پتھری تھی، اکثر درد ہو جاتا، جسکی وجہ بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے اسکا واحد علاج یہ ہے کہ آپ پیش کر کے پتہ نکال دیا۔ ایک دفعہ جب شدت کا درد ہوا تو میں نے تعویذات عطاریہ کے لئے مجلس سے رجوع کیا، انہوں نے تعویذات عطاریہ اور پینے کیلئے پہنچ دیں، جو پابندی سے استعمال کیں الحمد للہ عزوجل جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے اس پریشانی اور بیماری سے نجات مل گئی اور سال ہو گئے الحمد للہ عزوجل میری اہلیہ بالکل ٹھیک ہیں۔

(۱۳) ایک لاکھ قرض کی ادائیگی

ایک اسلامی بھائی نے بتایا میرے ماموں زاد بھائی پر تقریباً ایک لاکھ روپے قرض تھا جو انہیں ہو رہا تھا۔ بلکہ مسائل بڑھے تھے، جسکے سبب وہ انتہائی اذیت کا شکار تھے، (اس آزمائش کو وہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس پر اس قدر قرض ہو۔) الحمد للہ عزوجل تعویذات عطاریہ کی برکت سے تقریباً 60 ہزار روپے قرض اتر گیا ہے اور مزید اسباب بھی بنتے نظر آرہے ہیں۔

زبان پہ شکوہ رنج والم لایا نہیں کرتے
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا نہیں کرتے

(۱۴) نئی نویلی دلہن

ایک اسلامی بھائی کی اہلیہ شادی کے چند مفتوں بعد ہی اچانک ایک ”پراسرار بیماری“ میں بٹلا ہو گئی..... بھیاں ک آوازیں نکال کر گھر والوں سے والوں سے بد کلامی کرتی..... آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ ہو جاتیں۔ حتیٰ کہ ”بیماری“ اسقدر بڑھی کہ..... گھر میں رکھی چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنا شروع کر دیں۔ پتا نہیں چلتا تھا کہ آسیب ہے یا یونی بیماری؟ کافی عاملوں وغیرہ کے ذریعے کوششیں کیں..... کئی اسپیشلٹ کو بھی دکھایا..... مگر افاق نہ ہوا۔ اسی اذیت میں کم و بیش ۲ ماہ گزر گئے..... انہوں نے آخر کار پریشانی کے عالم میں..... تعویذات عطاریہ کیلئے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے رابط کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کئے۔

عثمان عطاری کا حلفیہ بیان ہے کہ جیسے ہی تعویذ عطاریہ پہنایا تو الحمد للہ عزوجل اہلیہ کی طبیعت بالکل درست ہو گئی اور تادم تحریر دوبارہ خراب نہیں ہوئی۔

بلیات غم و افکار کیونکر گھیر سکتے ہیں
سروں پہ نام لیوں کے ہے سایہ پید و مرشد کا

دی گئیں مگر ”مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی“ کے مصدق اگلے میں زخم مزید گھرا ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کھانا پوٹا بند ہو گیا۔ ہپتال میں داخل کر کے جب ثیسٹ کروایا تو کینسر تشخیص ہوا جو کافی بڑھ چکا تھا.....

ابو نے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ میں عرض کی اعلان کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ سے امیر المسنت وائست بر کا تم العالیہ کے عطا کردہ توعیدات بھی مجلس مکتبات و توعیدات عطاریہ سے حاصل کر کے استعمال کیا کروانے چاہئیں، کہ کئی ایسے مریض جن کو ڈاکٹر نے اعلان قرار دیا مگر انہیں توعیدات عطاریہ سے شفایتی ہے۔ میں نے توعیدات عطاریہ حاصل کئے۔ کچھی ہوئی پہلیں بھی پلاٹی گئیں۔ صرف ایک ہفتہ بعد جب ثیسٹ کروایا تو سب ڈاکٹر ہیرت زدہ رہ گئے کیوں کہ گلائیریبا 90% صحیح ہو چکا تھا۔ یہ برکت دیکھ کر ابو نے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ الحمد للہ عز وجلان توعیدات عطاریہ کی برکت سے میری دادی کو کینسر جیسے موزی مرض سے نجات مل گئی۔

(۱۷) 16 سال بعد اولاد

باب المدینہ (کراچی) کے ایک اسلامی بھائی کا حلپیہ بیان ہے کہ بر طائیہ (الگلینڈ) سے دو میاں ہیوی جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، باب المدینہ (کراچی) چھٹیاں گزارنے آئے۔ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے مگر اولاد سے محروم تھی۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں ملاقات پر بتایا کہ میرے یہاں اولاد نہیں تھی۔

الحمد للہ عز وجلان میں نے فیضان مدینہ سے مجلس مکتبات توعیدات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے توعیدات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کئے۔ الحمد للہ عز وجلان میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اور مجھے اسکے بعد دو بیٹیے اور ہوئے۔ آپ بھی چلیں! ان ہاء اللہ عز وجلان آپ کے من کی مراد بھی ضرور پوری ہو گی.....

انہوں نے کہا کہ بھائی امیں نے الگلینڈ اور کئی جگہ توعیدات وغیرہ بھی استعمال کر کے دیکھے ہیں، ابھی چند ماہ پہلے ہی برطانیہ میں ایک عامل کے پاس میں ۲۰ ہزار روپڑ (یعنی پاکستانی کم و بیش ۲ لاکھ روپے) خرچ کر چکا ہوں۔ مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

ان کے عزیز نے سمجھایا کہ الحمد للہ عز وجلان امیر المسنت وائست بر کا تم العالیہ کے توعیدات بالکل مفت دیے جاتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے فیضان مدینہ سے توعیدات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کئے! برطانیہ رواگی سے چند دن پہلے ”Quick cheek“ کیا تو الحمد للہ عز وجلان معلوم ہوا کہ ”امید“ ہو چکی ہے..... ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اور وہ حیران تھے کہ لاکھوں روپے بردا کر کے بھی اولاد سے محروم ہی، مگر توعیدات عطاریہ مفت حاصل کر کے استعمال کیئے تو الحمد للہ عز وجلان مراد بر آئی۔

لا ولد کی مراد پوری کو نیک بیٹوں سے گود بھریا درب

(فہد، بخشش)

(۱۸) جلدی بیماری سے شفاء

جامعہ المدینہ (راولپنڈی) کیا آصف محمد عطاری المدینی نے لکھ کر دیا کہ میرے کم و بیش 2 سالہ بیٹی واصف رضا عطاری کے کندھے اور گذاری پر سخت جلدی بیماری ہو گئی..... تکلیف کی بنا پر صحیح طرح سوبھی نہیں ملکا تھا۔ جلد پھٹ جاتی اور خون آن لگتا..... کافی علاج کروایا مگر افاقت نہ ہوا۔ اعلیٰ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! امیر الہست دائمت رَبَّکَاتْهُمُ الْعَالِیَّہ "فیضان رمضان" میں تحریر فرماتے ہیں کہ بظاہر تا خیر سے گھبرا نہیں چاہیئے۔ رب عز وجل کی مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، دیکھئے!..... عَسَدٌ نَا مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ الْأَصْلُوَةُ وَالسَّلَامُ کے چالیس برس بعد فرعون غرق ہوا۔ عَسَدٌ نَا يَعْقُوبُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ الْأَصْلُوَةُ وَالسَّلَامُ اسی برس بعد سَدٌ نَا يُوسُفُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ الْأَصْلُوَةُ وَالسَّلَامُ سے ملاقات ہوئی۔ (فیضان رمضان ص ۱۲۲)

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پریشانی دور ہونا یا کسی مریض کا صحت یا بہو، بارگاہِ الہی عز وجل میں منظور ہوتا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد القادر علیہ الشاذلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، کہ اللہ عز وجل جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کے اسباب مہیا فرمادیتا ہے۔ (حقائق عن التصوف، ص ۳۹)

اولیاء کرام رَحْمَمُ اللَّهُ سے مشکلات کے حل کے لئے کرامات کا ظاہر ہونا یا تعلویذات سے شفاء ملنا بھی، ایک ایسا مدفن سبب ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز وجل ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے۔ مثلاً کسی کا روزگار نہیں، یا گھر میں کھانسی کا مرض ہے۔ دعا کی گئی یا تعلویذ لیا۔ مگر کھانسی روکتی ہی نہیں تو گھبرا کر شکوہ شروع نہ کر دے، کیا معلوم اس میں کیا مصلحت ہو، کیا بعید کہ اسے کینسر کا مرض ہونا تھا، مگر کھانسی کے ذریعے بدلت دیا گیا ہو۔ کسی کو کینسر ہے، علاج کی لئے رقم نہیں، یا دعا کروائی یا تعلویڈ استعمال کیا، مگر مرض صحیح نہیں ہوا، تب بھی ہرگز بیزارت ہوں، عین ممکن ہے کینسر کا مرض دے کر اس کے بدلتے ایمان و عافیت کی موت اور جنت میں پیارے آقا کا پروں نصیب میں لکھ دیا گیا ہو۔

ہمارے لئے کیا بہتر ہے

کاش آپریشن ہو جاتا

ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے انہیں بائی پاس (pass by) آپریشن کے لئے کہا، مگر رقم کا انتظام نہ ہونے کے سبب آپریشن نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا..... ان کی بیوہ کہنے لگیں، کہ کاش رقم ہوتی تو ان کا آپریشن ہو جاتا اور شاید یہ نجیج جاتے۔

کاش آپریشن نہ ہوتا

کچھ عرصے کے بعد مرhom کے دوسرے بھائی کو (Heart) کی تکلیف ہونے پر..... ڈاکٹر نے انہیں بھی (pass by) آپریشن کا مشورہ دیا۔

سابقہ تجربے کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے کم و بیش تین لاکھ (3,000000) کی خطیر رقم کا انتظام کیا گیا۔ آپریشن کامیاب رہا..... مگر کسی دو اکے (side, effect) سے ان کے دماغ پر فانج کا اثر ہو گیا..... آہستہ آہستہ پورا جسم مفلوج ہو گیا..... پر پھوڑے نکلتے اور پھوٹ جاتے..... اس سے بدبو مواد ارکلتا۔ کافی عرصے سے اس بے کسی کے عالم میں، الی خانہ کے لئے اذیت کا سامان بننے کے بعد، اپنے بیوی بچوں کو روتا بلکہ چھوڑ کر دنیاۓ فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیوہ رورو کریہ کہتی گئیں، کہ کاش میں ان کا آپریشن نہ کرواتی، شاید یہ نجیج جاتے۔

یہ اللہ عزوجلٰ ہی جانتا ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے

اللہ عزوجلٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے! ترجمہ کنز الایمان (اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری گے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا۔ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں

جانتے) (پ، البقرہ آیت ۲۶)

یاد رکھئے کہ دعا کا آخر یا یہاں ظاہر ہو جاتا ہے، یادUA کا آخر دوسری صورت میں نظر آتا ہے کہ کوئی آسمانی یاد نہیں بلاؤ اور مصیبت اس بندے پر نازل ہوانیوالی تھی، وہ اس کی دعا سے نفع ہو گئی۔ اور اس بندے کو اس بلا کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یا اس کی دعا کا آخر قیامت میں ظاہر ہو گا۔ جو نہایت ضرورت کا وقت ہے۔ اس کی مزید معلومات کے لئے فیضان رمضان ص ۱۳۳ تا ۱۲۰ کا مطالعہ ضرور کیجئے۔

اہم بات

بہر حال تعویذات کے ذریعے علاج کرواتے وقت جلدی نہ چھائے، اور علاج بھی نہ چھوڑے، کیونکہ علاج مرض کی توعیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی مرض کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی مرض کیلئے چند دن علاج کافی ہے، اور کئی امراض کا علاج سالوں پر محيط بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا تعویذات عطاریہ بتائے گئے پرہیز کیسا تھا، پابندی سالوں سے استعمال کروائیں، ان شاء اللہ عزوجلٰ شفاء لکھی ہو گی تو دیر یوسیر ضرور ملے گی۔

ہماری تو سبیکی دعا ہے! کہ اے پروردگار عزوجلٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرم اکر بغیر آزمائش کے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلا کیاں عطا فرم اکر ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرم اکر ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت، جنت البقع میں مدنگ اور جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا ﷺ کا پڑوس عطا فرم۔ (مین بِحَمْدِ النَّبِيِّ إِلَّا مِنْ

(۱۶) دادو امام کو کینسر سے شفا

سردار آباد (فیصل آباد) کے اسلامی بھائی عبد الروف عطاری نے حلیفہ بتایا کہ میری دادی امام نمازی اور بڑی با اخلاق ہیں امیر اہلسنت و امثیلہ کاظم العالیہ سے مرید بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے گلے میں تکلیف کا اظہار کیا کہ کھانے میں دشواری بلکہ تھوک نکلنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے..... دوایاں دی گئیں مگر ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کے مصدق گلے میں زخم مزید گہرا ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کھانا پینا بند ہو گیا۔ ہسپتال میں داخل کر کے جب ثیسٹ کروایا تو کینسر تشخیص ہوا جو کافی بڑھ چکا تھا..... ابو نے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ میں عرض کی! علاج کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ سے امیر اہلسنت و امثیلہ کاظم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے حاصل کر کے استعمال کیا کروانے چاہئیں، کہ کئی ایسے مریض جن کو ڈاکٹر نے لاعلان قرار دیا مگر انہیں تعویذات عطاریہ سے شفایت ہے۔ میں نے تعویذات عطاریہ حاصل کئے۔ لکھی ہوئی پلیٹس بھی پلاٹی گئیں۔ صرف ایک ہفتے بعد جب ثیسٹ کروایا تو سب ڈاکٹر حیرت زدہ رہ گئے کیوں کہ گلا تقریباً ۹۰% صحیح ہو چکا تھا۔ یہ برکت دیکھ کر ابو

نے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ الحمد لله عز وجل و تعالیٰ تعویذات عطاریہ کی برکت سے میری دادی کو کینسر جیسے موزی مرض سے نجات مل گئی۔

(۱۷) 16 سال بعد اولاد

باب المدینہ (کراچی) کے ایک اسلامی بھائی کا حلوفیہ بیان ہے کہ برطانیہ (انگلینڈ) سے دو میاں یہوی جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، باب المدینہ (کراچی) چھٹیاں گزارنے آئے۔ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے مگر اولاد سے محروم تھی۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں ملاقات پر بتایا کہ میرے یہاں اولاد نہیں تھی۔

الحمد لله عز وجل میں نے فیضان مدینہ سے مجلس مکتبات تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کئے۔ الحمد لله عز وجل میرے یہاں بیٹھے کی ولادت ہوئی، اور مجھے اسکے بعد دو بیٹھے اور ہوئے۔ آپ بھی چلیں! ان هاء اللہ عز وجل آپ کے من کی مراد بھی ضرور پوری ہوگی.....

انہوں نے کہا کہ بھائی! میں نے انگلینڈ اور کئی جگہ تعویذات وغیرہ بھی استعمال کر کے دیکھے ہیں، ابھی چند ماہ پہلے ہی برطانیہ میں ایک عامل کے پاس میں ۲۰ ہزار روپڑ (یعنی پاکستانی کم و بیش ۲ لاکھ روپے) خرچ کر چکا ہوں۔ مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے عزیز نے سمجھایا کہ الحمد لله عز وجل امیر الہست و امیر کاظم العالیہ کے تعویذات بالکل مفت دیئے جاتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے فیضان مدینہ سے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کئے! برطانیہ روائی سے چند دن پہلے "Quick check" کیا تو الحمد لله عز وجل معلوم ہوا کہ "امید" ہو چکی ہے..... ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اور وہ حیران تھے کہ لاکھوں روپے بر باد کر کے بھی اولاد سے محروم رہی، مگر تعویذ عطاریہ مفت حاصل کر کے استعمال کیئے تو الحمد لله عز وجل مرا در آئی۔

لا ولد کی مراد پوری کر نیک بیوی سے گود بھر یار ب (قبائل بخشش)

(۱۸) جلدی بیماری سے شفاء

جامعۃ المدینہ (راولپنڈی) کیا آصف محمد عطاری المدنی نے لکھ کر دیا کہ میرے کم و بیش 2 سالہ بیٹھے واصف رضا عطاری کے کندھے اور گذاری پر سخت جلدی بیماری ہو گئی..... تکلیف کی بنا پر صحیح طرح سو بھی نہیں سکتا تھا۔ جلد پھٹ جاتی اور خون آنے لگتا..... کافی علاج کروایا مگر افاق نہ ہوا۔ اعلیٰ قسم کے مرہم بھی استعمال کئے، مگر کچھ دن سکون ملتا پھر وہی صورت حال ہو جاتی..... جب بچے کو خارش اور جلن شروع ہوتی تو بچے کے ساتھ ساتھ میری اور بچے کی والدہ کی حالت بھی قابل رحم ہو جاتی، بچے کی تکلیف دیکھ کر ہمارے آنسو نکل آتے مگر ہم مجبور تھے۔

ایک دن مجلس مکتبات تعویذات عطاریہ سے تعویذ عطاریہ حاصل کر کے بچے کو پہنایا۔ الحمد لله عز وجل صرایک بختے کے اندر اندر میرے بچے کی جلد صحیح ہو گئی اور بچے کو شدید تکلیف سے نجات مل گئی۔

میری اولاد و میری بھائیں
جملہ احباب اور سب اہل سنت

(۱۹) شوگر سے شفاء

ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ لکھ کر دیا، مجھے کافی عرصہ سے شوگر کا مرض تھا، کئی ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا، افاق نہ ہوا سب کہتے! یہ علاج مرض ہے، ہمارے پاس اس کا صرف عارضی علاج ہے، بس آپ اس نے مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ کے مكتب سے رابطہ کر کے مجھے تعویذات عطاریہ لا کر دیا، میں نے باندھا اور ایک وظیفہ بھی جو پڑھنے کیلئے دیا تھا، پڑھا۔ الحمد للہ عز وجلہ میری شوگر ڈاکٹروں کے بقول نارمل ہو چکی ہے، جب کہ میں نے پڑھیز بھی ختم کر دیا ہے اور ڈاکٹر بھی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے کس سے علاج کروایا؟

شربت نہ دیں نہ دیں تو کرے بات لطف سے

یہ شہد ہو تو پھر کے پر واہ شکر کی ہے (حدائق بخشش)

(۲۰) ہیپاٹائز (C) سے نجات

ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بتایا، مجھے ہیپاٹائز (C) تھا، جب مجھے اس بیماری کا پتا چلا تو میں اور میرے گھروالے پریشان ہو گئے، مجھے کسی نے بتایا کہ فیضان مدینہ چلے جاؤ، وہاں تعویذات عطاریہ ملیں گے، میرے پیروں میں درد، ہڈیوں میں بخار اور قبض بھی رہتی تھی، جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ الحمد للہ عز وجلہ حاصل کردہ تعویذات عطاریہ جب سے گلے میں ڈالا اور تعویذ عطاریہ کا پیا تو حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوئے، دس دن کے اندر اندر میرا بخار چلا گیا اور پیروں کا درد بھی ختم ہو گیا۔ 2003.9.4 کو تعویذات کے عمل کو چالیس دن ہوئے تو میں نے ٹیکسٹ کروایا، تو الحمد للہ عز وجلہ میری ہیپاٹائز C کی بیماری ختم ہو چکی تھی، الحمد للہ عز وجلہ اب مجھے کو تکلیف نہیں ہے، نہ درد نہ بخار نہ قبض۔

(۲۱) بچہ کی ولادت اور آپریشن

پنڈی کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی ہمیشہ امید سے تھیں۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو المرا سا وہ نہ سے پتا چلا کہ بچے کی نشوونماڑ کچلی ہے۔ زندگی بچانے کیلئے ہمیں وقت سے پہلے آپریشن کر کے بچے کو نکلانا پڑے گا۔ اور مشین میں رکھ کر اسکی نشوونما کیلئے کوشش کریں گے..... گھروالے گھبرا گئے۔ کسی نے مشورہ دیا مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ سے تعویذ عطاریہ حاصل کریں ان حاء اللہ عز وجلہ بہتری ہوگی، تعویذ عطاریہ لا کر پہننا یا۔ الحمد للہ عز وجلہ چندی دنوں میں ماں کا چھکلووزن بڑھا اور روپٹ کے مطابق بچے کی نشوونما بھی کافی بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر حیران تھے، کہنے لگے، اب وقت سے پہلے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔

مصادیب میں کبھی حرف شکایت لتب پہ مت لانا

مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے

تعویذات یا اوراد در کار ہوں تو یہ فارم پر کر دیجئے۔

پہلے پڑھ لیجئے: ”عامل“ کو گھنٹوں گفتگو سننے لمبے چوڑے مکتوب پڑھنے ضروری نہیں ہوتے۔ ان کو مرض کا نام مثلاً پیٹ، گردے، یا کمر کا در، کینسر، بخار وغیرہ یا پریشانی مثلاً بے اولادی، بے روزگاری، شادی میں رکاوٹ، جادو یا آسیب یا الفاظ بتا دینا یا لکھ کر دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ برائے کرم اپنے اور دوسروں کے وقت کی قدر سمجھے اگر کسی کی پریشانی وغیرہ ہے تو فارم پر کر کے عنایت فرمادیجئے۔ یا فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی کراچی کے پتے پر پوست کر دیجئے۔

مریض امریفہ امیبیت زدہ کا نام.....	عمر.....	ماں کا نام.....
آج کی تاریخ.....	ماہ.....	سال.....
مریض، حاجت یا پریشانی کا نام وغیرہ چند لفظوں میں لکھ کر دیں.....	ای میل نمبر.....	
ایسا ایسا نام و پتا جس پر خط ملتا ہو (صاف لفظوں میں)		
فون نمبر.....		

(نام و پتا لکھا ہوا اُک ملک و الاجوabi لفافہ ساتھ آنا ضروری ہے)

خبردار ۱ پیسے کھا جانے والوں یا جادو کروانے والوں کے نام و رشتہ وغیرہ لکھ کر ابول کر غیبت و بہتان کے خطرات میں نہ پڑیں۔

دعائی عطاء اے اللہ عز و جل اس فارم جس کا نام ہے اس کی مغفرت ہو، یہاڑی و پریشانی دور ہو جائز حاجت پوری و اور دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ میٹھے میٹھے مصطفی ﷺ کے صدقے یہ دعا میں میرے اور ساری امت کے حق میں قبول ہوں۔ (امین بجاہ النبی الامین ﷺ)

غود سے پڑھ لیجئے

جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن امیر الہلسنت دامت برکاتہم عالیہ کے تعویذات کی برکت سے شفاء یاب ہوئے، ان سے درخواست ہے کہ یہ فارم ان لارج کاپی کرو کر، پڑھ کر کے اس پتے، ” محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، کراچی عالمی منڈنی مرکز فیضان مدینہ مکتب نمبر ۳“ پر مجھوا کراحسان فرمائیں۔

مریض کا نام.....	ولدیت.....	خط ملنے کا پتہ.....
فون نمبر (بمحکوم).....	واقعہ لکھنے والے کا نام.....	ولدیت.....
مریض اپریشانی / آسیب وغیرہ.....		

کتنے عرصے سے یہاڑی یا پریشانی تھی؟..... کتنے عرصے علاج ہوا؟.....

محلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ پر ابٹے سے پہلے کس کس جگہ علاج کروایا؟.....

اس رسالے میں دیئے ہوئے واقعات کے اندر میں امیر الہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکتیں تفصیل سے لکھ سکھیں تو.... ورنہ جس طرح چاہیں لکھ دیجئے۔

جو کسی کا مرید نہ ہو اسکی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ کو فیضت جانے اور ان کا مرید ہو جائے۔

شیطانی روکاوت:

یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ حضور غوث پاک ﷺ کا مرید بننے میں ایمان کا تحفظ، مرنے سے پہلے تو بہ کی توفیق، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے عظیم منافع موجود ہیں۔ لہذا شیطان آپ کو مرید بننے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا۔ میں ماں باپ سے پوچھلوں، دوستوں کا بھی مشورہ لے لوں، ذرائع ماز کا پابند ہو جاؤں، ابھی جلدی کیا ہے، ذرا مرید بننے کے قابل ہو جاؤں پھر مرید بھی بن جاؤں گا۔

میرے پیارے اسلامی بھائی! کہیں قابل بننے کے انتظار میں موت نہ آس بھا لے لہذا مرید بننے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یقیناً مرید ہونے میں نقصان کا پہلو ہی نہیں، دونوں جہاں میں ان هاء اللہ عزوجل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے گھر ایک ایک فرد بلکہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہوتا سے بھی سرکار غوث اعظم ﷺ کے سلسلے میں داخل کر کے مرید بنو کر قادری رضوی عطاری بنا دیں۔

شجرہ عطاریہ

الحمد للہ عزوجل امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیارا "شجرہ شریف" مرتب فرمایا ہے۔ جس میں گناہوں سے بچنے کیلئے، کام اٹک جائے تو اس وقت، اور روزی میں برکت کیلئے کیا کیا پڑھنا چاہئے۔ جادوؤں سے حفاظت کیلئے کیا کرنا چاہئے، اسی طرح کے اور بھی بہت سے "اوراً" لکھے ہیں۔ اس شجرے کو صرف وہ ہی پڑھ سکتے ہیں، جو امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری رضوی عطاری سلسلے میں مرید یا طالب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لہذا امت کی خیرخواہی کے پیش نظر، جہاں آپ خود امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا پسند فرمائیں، وہاں انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقرباء اور اہل و خانہ دوست احباب و دیگر مسلمانوں کو بھی ترغیب دلا کر مرید یا طالب کروادیں۔

مرید بننے کا طریقہ

بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بھائیں، اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں! کہ ہم امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ مگر ہمیں طریقہ معلوم نہیں، تو اگر آپ مرید بننا چاہتے، تو اپنا اور جن کو مرید یا طالب بنانا چاہتے ہیں تو انکا نام، آخری صفحے پر ترتیب وارولدیت و عمر لکھ کر عالیٰ مرکز فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پر انی سبزی منڈی کراچی مکتب نمبر ۳ کے پتے پر روانہ فرمادیں، ان هاء اللہ عزوجل انہیں بھی سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس کیلئے نام لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔

مثال: لڑکی ہوتا میمونہ بنت محمد بلال عمر تقریباً چار سال اور لڑکا ہوتا احمد رضا بن محمد بلال عمر تقریباً چھ سال، اپنا پتا ہرگز نہ

بھولیں۔ (پتا انگیریزی کے کیپٹل حروف میں لکھیں)

مسئلہ: اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ ”بذریعہ قاصد یا بذریعہ خط مرید ہو سکتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱۲ صفحہ ۴۹۲)

”قادِری عطاری“ یا ”قادِریہ عطاریہ“ بنوانے کیلئے

۱) نام و پتا بال پین سے اور بالکل صاف لکھیں، غیر مشہور نام یا الفاظ پر لازماً اعراب لگائیں۔ اگر تمام ناموں کیلئے ایک ہی پتا کافی ہو تو دوسرا پتا لکھنے کی حاجت نہیں۔ ۲) ایڈریس میں محرم یا سرپرست کا نام ضرور لکھیں ۳) الگ الگ مکتوبات منگوانے کیلئے جوابی لفافے ساتھ فرور ارسال فرمائیں۔

نمبر شمار	نام	مرد اعورت	بن/ بنت	باپ کا نام	عمر	مکمل ایڈریس

مَذْكُونَ مَشْوَرَة : اس فارم کو محفوظ کر لیں اور اس کی مزید کا پیاں کروالیں۔